

قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ
قے (Vomiting) آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے
سائلہ : ایک بہن (انگلینڈ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ
بلا اختیار قے ہو نے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ منہ بھر ہو یعنی بہت زیادہ ہو اور
اگر قصداً جان بوجھ کر منہ بھر قے کی تو روزہ یاد ہونے کی صورت میں روزہ
ٹوٹ جائے گا اور اگر منہ بھر نہیں یعنی تھوڑی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ
قصداً کی ہو۔
جیسا کہ بہار شریعت میں ہے کہ قصداً بھر موندھ قے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو
مطلقاً روزہ جاتا رہا اور اس سے کم کی تو نہیں اور بلا اختیار قے ہو گئی تو بھر منہ
ہے یا نہیں اور بھر تقدیر وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اُس نے خود لوٹائی یا نہ
لوٹی، نہ لوٹائی تو اگر بھر منہ نہ ہو تو روزہ نہ گیا۔

{بہار شریعت ج ۱ حصہ ۴ ص ۹۸۸}

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

خادم دارالافتاء یوکے

Date:28-03-2020

QUESTION: What do the scholars and muftis of the mighty Shari'ah say regarding the following matter: will vomiting cause the fast to become invalid?

Questioner: A sister from England

ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجواب بعون الملِك الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

Vomiting involuntarily will not cause the fast to become void, even if it is a mouthful, i.e. a large amount. If one caused him/herself to vomit a mouthful and remembered that he/she was fasting, the fast will become void, but if it was not a mouthful i.e. a small amount, then the fast will not break, even if it was done of one's own volition.

Just as it is stated in Bahar-e-Shariat:

If one intentionally vomits a mouthful and he remembers that he is fasting, then the fast is definitely broken. If he vomited less than a mouthful, the fast will not break. If he vomited involuntarily, then whether it is a full mouth or not, and in any case, if it went back into the throat, or if he pulled it back into the throat, or if it did not go back, or even if he did not pull it back in, and if it is not a mouthful, the fast will not break, even if it went back into the throat or if he pulled it back himself.

[Bahar-e-Shariat, vol. 1, part 4, pg. 988]

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qādrī

Translated by Zameer Ahmed